

Key Fact Statement for Deposit Accounts

کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ برائے ڈپازٹ اکاؤنٹس

Al Baraka Bank (Pakistan) Limited
Branch, City برانچ، شہر

November 2025
نومبر 2025ء

IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. You have the right to receive KFS from other banks for comparison.

ضروری ہدایت: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ آپ دوسرے بینکس کی جانب سے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے دوسرے بینکس سے کے ایف ایس (Key Fact Statement) وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

Account Types & Salient Features:

This information is accurate as of the date above. Services and fees may change on periodic basis. For updated fees/charges, you may visit our website or branches.
(Services & Fees updated semiannually)

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

یہ معلومات درج بالا تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ سروسز، فیس اور منافع کی شرح وقفے وقفے سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین فیس/چارجز کی معلومات، آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں یا ہماری کسی بھی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ (سروسز اور فیس ششماہی بنیاد پر جبکہ منافع کی شرح ماہانہ بنیاد پر اپڈیٹ کیا جاسکتا ہے)

		Al Baraka Saving Accounts البرکہ بچّہ گھ اکاؤنٹس													
Particulars مندرجات		Saving Account بچّہ گھ اکاؤنٹ	Saving Account بچّہ گھ اکاؤنٹ	Banaat بنات	Tifl ٹی آئی ایف ایل	Shafqaat شفقت	Mahana Barkah ماہانہ برکت	Business Plus بزنس پلس	Mudarabah Premium مضاربہ پریمیم	Consumer Business Partner کنزومر بزنس پارٹنر	Khazana خزانہ	Freelancer فری لانسر	ASAAN Digital آسان ڈیجیٹل	ASAAN Digital Remittance آسان ڈیجیٹل ریمٹنس	Islamic Institution Deposit اسلامک انسٹیٹیوشن ڈپازٹ
			ASAAN Saving آسان بچّہ گھ												
Currency کرنسی		USD امریکی ڈالر GBP برطانوی پونڈ EURO یورو JPY جپن AED اے ایم ڈی	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے	PKR پاکستانی روپے
Minimum Balance for Account (Last Month) کم از کم رقم کھاتے کے لیے کم سے کم رقم	To open کھولنے کے لیے	\$: 100 امریکی ڈالر £: 100 برطانوی پونڈ €: 100 یورو ¥: 100 جپن AED 100 اے ایم ڈی	PKR 100 روپے	PKR 5000 5000 روپے	PKR 100 100 روپے	PKR 10,000 10,000 روپے	PKR 10,000 10,000 روپے	PKR 25,000 25,000 روپے	PKR 10,000 10,000 روپے	PKR 25,000 25,000 روپے	Individual: PKR 100,000 Business: PKR 250,000 افراد کی: 100,000 روپے کاروبار: 250,000 روپے	N/A نہ قابل اطلاق			PKR 10,000,000 10,000,000 روپے
	To keep رکھنے کے لیے	NIL کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL1 کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL1 کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL2 کوئی نہیں	NIL کوئی نہیں	NIL2 کوئی نہیں					
Account Maintenance Fee کھاتہ برقرار رکھنے کی فیس		NIL کوئی نہیں													
Is Profit Paid on account? کیا اس کھاتے پر منافع ادا کیا جائے گا؟		Yes ہاں													
Declared Profit Rate (Last Month) اعلان کردہ منافع کی شرح		0.15 % (\$) (\$) 0.15 % (E) (£) 0.15 % (€) (€) 0.15 % (¥) (¥) 0.15 % (اے ڈی) (اے ڈی)	Saving بچّہ گھ 6.05% - 3.33%** ASAAN آسان 6.05%	6.05%*	6.05%	6.05%*	6.05%* - 3.33% to 4.36%**	0.04%	6.05%* - 3.33% to 5.38%**	0.04%	6.05%* - 3.33% to 4.36%**	6.05%	6.05%	6.05%	3.33% to 4.10%*
Profit Payment Frequency منافع کی ادائیگی کا دورانیہ		Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Quarterly سہ ماہی	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ	Monthly ماہانہ
Example of profit (approx.) earned: earned every month PKR 1000 USD: 100 GBP: 100 EURO: 100 AED: 100 (Before withholding tax) کمائے گئے منافع کی مثال (تقریباً): ہر ماہ کیا گیا 1000 روپے، 100 امریکی ڈالر، 100 برطانوی پونڈ، 100 یورو، 100 اے ایم ڈی (دوولنگ ٹیکس سے قبل)		\$: 0.0125 £: 0.0125 €: 0.0125 ¥: 0.0125 اے ڈی: 0.0125	Saving بچّہ گھ PKR 5.04 - PKR 2.78 ASAAN آسان PKR 5.04	PKR 5.04	PKR 5.04	PKR 5.04*	PKR 5.04 - PKR 2.78 to PKR 3.63*	PKR 0.03	PKR 5.04 - PKR 2.78 to PKR 4.48*	PKR 0.03	PKR 5.04 - PKR 2.78 to PKR 3.63*	PKR 5.04	PKR 5.04	PKR 5.04	PKR 2.78 to PKR 3.42*
Premature/Early Encashment/ Withdrawal Fee قبل از وقت/جلد کیش کروانے/رقم نکالوانے کی فیس		N/A نہ قابل اطلاق													

Service Charges

IMPORTANT: All charges will be charges as per prevailing SOC. This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list on our website at www.albaraka.com.pk. Please note that all bank charges are exclusive of applicable taxes.

خدمات کی اجرت:

ضروری ہدایت: تمام چارجز موجودہ شیڈول آف چارجز (SOC) کے مطابق وصول کیے جائیں گے۔ یہ فہرست صرف اس اکاؤنٹ کے بنیادی سروس چارجز پر مشتمل ہے، تمام چارجز اس میں شامل نہیں ہیں۔

مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.albaraka.com.pk پر دستیاب ہے۔ براؤزر یا دیگر بینک چارجز شامل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔

* - Certain saving accounts will have their own respective profit eligibility slab and based on which profit will be paid, only an example is shown above.

** - For Financial Institutions, Public Sector Entities & Public Limited Companies.

1 - PKR 10,000 & above monthly average balance for free services as specified in the SOC.

2 - PKR 25,000 & above monthly average balance for free services as specified in the SOC.

1 - بعض سیونگ اکاؤنٹ کے منافع کی اپنی مخصوص اہلیت کی حدود کی، جس کی بنیاد منافع ادا کیا جائے گا۔ اوپر صرف ایک مثال درج ہے۔

2 - یہ شرائط مالیاتی اداروں، عوامی شعبے کے اداروں اور پبلک سیکٹر انٹیلیٹس پر لاگو ہوں گی۔

3 - ماہانہ وسطی 10,000 روپے یا اس سے زائد پر منافع خدمات (جیسا کہ SOC میں درج ہیں)۔

4 - ماہانہ وسطی 25,000 روپے یا اس سے زائد پر منافع خدمات (جیسا کہ SOC میں درج ہیں)۔

		SOC کے مطابق چارجز (جولائی 2025ء سے دسمبر 2025ء) CHARGES AS PER SOC (Jul-25 to Dec-25)															
Services خدمات	Modes ذرائع	Saving Account سیونگ اکاؤنٹ	Saving Account سیونگ اکاؤنٹ ASAAN Saving آسان سیونگ	Banaat بنات	Tift ٹی آئی ایف ٹی	Shafqaat شفقت	Mahana Barkah ماہانہ برکت	Business Plus بزنس پلس	Mudrabah Premium مضاربہ پریمیم	Consumer Business Partner کنزومر بزنس پارٹنر	Khazana خزانہ	Freelancer فری لانسر	ASAAN Digital آسان ڈیجیٹل	ASAAN Digital Remittance آسان ڈیجیٹل ریمٹنس	Islamic Institution Deposit اسلامک انسٹیٹیوشن ڈپازٹ		
Cash Transaction رقم کا لین دین	Intercity شہروں کے مابین	N/A نا قابل اطلاق	NIL کوئی نہیں														
	Intra-city شہر کے اندر		NIL کوئی نہیں														
	Own ATM withdrawal اپنے اے ٹی ایم سے رقم نکھانے پر		FREE مفت														
	Other Bank ATM دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم پر		PKR 23.44/- per transaction (only on financial transactions) 23.44/- روپے فی ٹرانزیکشن (صرف مالی لین دین پر)														
SMS Alerts ایس ایم ایس الارش	ADC/Digital اے ڈی سی/ڈیجیٹل	\$8 5	FREE مفت														
	Clearing کلیئرنگ		NIL کوئی نہیں														
	For other transactions 4 دیگر لین دین کے لیے		PKR 200/- ^{7,8,12} 200/- روپے														
Debit Cards ڈیبٹ کارڈ	Classic Union Pay Int. کلاسیک یونین پیے انٹرنیشنل	N/A نا قابل اطلاق	PKR 2,200/- 2,200/- روپے													N/A نا قابل اطلاق	
	Gold Union Pay Int. گولڈ یونین پیے انٹرنیشنل		PKR 2,700/- 2,700/- روپے														
	Classic MasterCard کلاسیک ماسٹر کارڈ		PKR 2,700/- ¹¹ 2,700/- روپے														
	Gold MasterCard گولڈ ماسٹر کارڈ		PKR 3,700/- 3,700/- روپے														
	Platinum MasterCard پلاٹینم ماسٹر کارڈ		PKR 8,000/- 8,000/- روپے														
	FCY MasterCard ایف سی وائی ماسٹر کارڈ		N/A نا قابل اطلاق														
	Paypak Standard پے پاک اسٹینڈرڈ		PKR 2,000/- ^{7,8,9,10} 2,000/- روپے														
	Paypak NexGen پے پاک نیکس جین		PKR 3,000/- 3,000/- روپے														
	Paypak Aura پے پاک اورا		PKR 3,000/- 3,000/- روپے														
	Cheque Book چیک بک		Issuance ایزا		PKR 20/- per leaf ^{7,8,9,11} 20 روپے فی ورڈ ^{7,8,9,11}												
Stop payment ادائیگی روکنا			PKR 350/- per cheque and PKR 1000/- per request (if all cheques pertain to same cheque book) 350/- روپے فی چیک اور 1000/- روپے فی درخواست (اگر تمام چیکس ایک ہی چیک بک سے متعلق ہوں)														
Loose cheque چیک کشدگی			N/A نا قابل اطلاق														
Remittances (Local) رسمیات ذر (مقامی)	Banker Cheque/Pay Order بینکر چیک/پے آرڈر		PKR 150/- ^{7,9,11} 150/- روپے														
Remittances (Foreign) رسمیات ذر (غیر ملکی)	Foreign Demand Draft غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ		\$ 15/- 15 ڈالر														
	Wire Transfer وائر کے ذریعے منتقلی		\$15 (eqv. in other currencies) + SWIFT + cash handling charges + correspondent Bank charges at actual, if any 15 ڈالر (دیگر کرنسیز کے مساوی) + سوئیفت + کیش ہینڈلنگ چارجز + متعلقہ بینک کے اصل چارجز، اگر کوئی ہوں														
Statement of Account گوشوارہ برائے حساب	Annual/Half Yearly/Duplicate سالانہ/نیم سالانہ/تکثیر		PKR 35/- (per request/per item) 35/- روپے (فی درخواست/آئٹم)														
Fund Transfer فونڈ کی منتقلی	ADC/Digital Channels اے ڈی سی/ڈیجیٹل چینل		FREE مفت														
	ADC/ Digital Channels (Inter Bank) اے ڈی سی/ڈیجیٹل چینل (انٹر بینک)		Up to PKR 25,000/- per month: NIL (For additional amount above PKR 25,000 per month: 0.1% of the transaction amount or PKR 200, whichever is lower) فی ماہ 25,000/- روپے تک: مفت (اگر کسی مہینے میں 25,000/- روپے سے زیادہ رقم کے وائیٹرز یا اضافی ٹرانزیکشنز پر 0.1% یا 200/- روپے، جو بھی کم ہو)														
Digital Banking ڈیجیٹل بینکاری	Internet & Mobile banking subscription (onetime & annual) انٹرنیٹ اور موبائل بینکاری سبسکرپشن (ایک بار اور سالانہ)		FREE مفت													N/A نا قابل اطلاق	
Clearing کلیئرنگ	Local Bills لوکل بلز		PKR 200/- (flat) courier charges inclusive 200/- روپے (فلٹ) بشمول کوریئر چارجز														
	Intercity شہروں کے درمیان	N/A نا قابل اطلاق		PKR 200/- per instrument ⁷ 200/- روپے فی انسٹرومنٹ ⁷													
	Special (NIFT) اسپیشل (این آئی ایف ٹی)	N/A نا قابل اطلاق		PKR 400/- (flat) ⁷ 400/- روپے (فلٹ) ⁷													
Closure of Account کھاتے کی بندش	Customer request صارف کی درخواست		NIL کوئی نہیں														

4 - Per month in advance 6 - Equivalent to PKR 20/- per leaf 5 - Or equivalent/annually in advance
7 - Free for Business plus & Consumer Business Partner Account on opening or maintaining monthly average balance of 25k and above
8 - Free for Shafqaat Account customers on opening or maintaining monthly average balance of 10k and above
9 - Free for Banaat Account customers on opening or maintaining monthly average balance of 10k and above 10 - For First Year only
11 - Free for Freelancer Account customers on opening or maintaining monthly average balance of 10k and above 12 - PKR 500 for company accounts

4 - فی ماہ یا دل میں
5 - اس کے مساوی سالانہ یا دل میں 10 - صرف پہلے سال کے لیے
6 - فری لانسر اکاؤنٹ کے صارفین کے لیے
7 - فری لانسر اکاؤنٹ کے صارفین کے لیے
8 - فری لانسر اکاؤنٹ کے صارفین کے لیے
9 - فری لانسر اکاؤنٹ کے صارفین کے لیے
10 - پہلے سال کے لیے
11 - فری لانسر اکاؤنٹ کے صارفین کے لیے
12 - فری لانسر اکاؤنٹ کے صارفین کے لیے

You Must Know آپ کو معلوم ہونا چاہیے

Requirements to open an account: To open an account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and banks' internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details.

کھاتہ کھولانے کے لیے ضروری تقاضے: کھاتہ کھولانے کے لیے آپ کو ضوابط اور بینکوں کی داخلی پالیسیوں کے مطابق شناخت کے لیے کچھ ضروری تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ جن میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا شامل ہو سکتی ہیں۔ ان معلومات کو فراہم کرنے کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔

Cheque Bounce: Dishonoring of cheques is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. Whoever dishonestly issues a Cheque towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation and which is dishonored on presentation shall be punishable by a fine and imprisonment as per criteria listed in the Pakistan Penal Code section 489 F,

چیک باؤنس: پاکستان میں چیک کی عدم ادائیگی (ڈس آنر) ایک نوعداری مقدمے کے تحت آتی ہے۔ لہذا آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چیک جاری کرنا چاہیے۔ جو شخص بدینتی سے قرض کی ادائیگی یا کسی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے چیک جاری کرے اور وہ چیش کرنے پر باؤنس ہو جائے، تو وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489-F کے تحت جرمانے اور قید کی سزا کا مستحق ہوگا۔

Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, Cheques, ebanking usernames, passwords; other personal information, etc. is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. Al Baraka Bank will never ask for your personal information such as ATM PIN, CVV or exp. date via Phone, SMS or email.

حفاظت کی ذمہ داری: آپ کے کھاتے تک رسائی کے ذرائع جیسے ایٹم کارڈز، پین کڈز، چیک بک، ای بینکنگ یوزر نیمز، پاس ورڈز اور دیگر ذاتی معلومات وغیرہ کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کسٹمر کی طرف سے کسی بھی قسم کی سیوریٹی کی یا کوئی بھی کی صورت میں بینک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ کہ بینک بھی آپ سے فون، ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے آپ کی ذاتی معلومات جیسے ایٹم CVV، PIN یا کارڈ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ (Expiry Date) طلب نہیں کرے گا۔

Record updation: Always keep profiles/records updated with the bank to avoid missing any significant communication. You can contact your account maintaining branch, to update your information.

ریکارڈ اپڈیٹ: کسی بھی اہم بینک کی ٹیلیکیشن سے محروم ہونے سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنی پروفائل / ریکارڈ بینک کے ساتھ اپڈیٹ رکھیں۔ اپنی معلومات اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی متعلقہ برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be treated as dormant. If your account becomes dormant, you will not be able to make withdrawals. To reactivate your account, you must visit your account maintaining branch with identity proof (e.g. NIC, Passport) and make a deposit for reactivation of your dormant account.

اگر آپ طویل عرصے تک کھاتا استعمال نہ کریں تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کا کھاتا 12 ماہ تک غیر فعال (Inoperative) رہے، تو اسے Dormant تصور کیا جائے گا۔ Dormant اکاؤنٹ کی صورت میں آپ رقم نہیں نکلا سکیں گے۔ کھاتا دوبارہ فعال کرنے کے لیے آپ کو اپنی متعلقہ برانچ میں شناختی دستاویز (جیسے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ) کے ساتھ جانا ہوگا اور دوبارہ فعال کے لیے ڈپازٹ جمع کروانا ہوگا۔

Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last fifteen years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact your account maintaining branch for more information.

غیر وصول شدہ ڈپازٹس: بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی دفعہ 31 کے تحت وہ تمام ڈپازٹس جو گزشتہ پندرہ برس کے دوران آپریشن نہ کیے گئے ہوں، (سوائے اُن ڈپازٹس کے جو کسی نابالغ، حکومت یا عدالت کے نام پر ہوں) متعلقہ بینک قانون کی دفعات کے مطابق تقاضے پورے کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے سپرد کر دیے ہیں۔ ایسے ڈپازٹس متعلقہ بینک کے ذریعے کلیم کیے جاسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم اپنی متعلقہ برانچ سے رابطہ کریں۔

Closing this account: In order to close your account, please visit your account maintaining branch along with your CNIC, cheque book and ATM card for the processing of account closure.

کھاتہ بند کرنا: اپنا کھاتہ بند کرنے کے لیے براہ کرم اپنی متعلقہ برانچ میں قومی شناختی کارڈ (CNIC)، چیک بک اور ایٹم کارڈ کے ہمراہ تشریف لائیں تاکہ اکاؤنٹ بند کرنے کا عمل مکمل کیا جاسکے۔

How can you get assistance or make a complaint?

Complaint Management unit,
Address: 3rd floor, Plot No. 11-C,
Zamzama Boulevard, Phase V, DHA, Karachi, Pakistan.
Helpline: +92 (21) 111-113-442
Email: complaints@albaraka.com.pk

معاونت یا شکایت کے لیے طریقہ کار

شکایات مینجمنٹ یونٹ

پتہ: تیسری منزل، پلاٹ نمبر 11-C، زمزمہ بلوار، فیز V، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان

ہیلپ لائن: +92 (21) 111-113-442

ای میل: complaints@albaraka.com.pk

If you are not satisfied with our response, you may contact:

BANKING MOHTASIB PAKISTAN (BMP)
Address: Shaheen Complex 5th floor, M.R Kiyani Road, Karachi
Helpline: +92 (21) 99217334-38
Email: info@bankingmohtasib.gov.pk
Website: www.bankingmohtasib.gov.pk

اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوں تو آپ درج ذیل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں:

بینکنگ محتسب پاکستان (BMP)

پتہ: شاہین کمپلیکس، پانچویں منزل، ایم آر کیانی روڈ، کراچی۔

ہیلپ لائن: +92 (21) 99217334-38

ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

ویب سائٹ: www.bankingmohtasib.gov.pk

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT

میں ان اہم معلومات کو وصول کرنے اور انہیں سمجھنے کا اقرار کرتا ہوں

Customer Name: صارف کا نام	Date: تاریخ	
Product Chosen: منتخب کردہ پروڈکٹ	Account No. اکاؤنٹ نمبر	
Mandate of account: اکاؤنٹ کا اختیار	Single/Joint/Either or Survivor انفرادی/مشترکہ/بذات خود یا کوئی اور	
Address پتہ		
Contact No. رابطہ نمبر	Mobile No. موبائل نمبر	Email Address ای میل ایڈریس
Customer Signature صارف کے دستخط		Signature Verified دستخط کی تصدیق